

والدین کی انجمنیں اور والدین - اساتذہ انجمنیں



مزید معلومات اور
مدد کے لیے:

والدینی قیادت کی ویب سائٹ سے رجوع
کریں: [www.schools.nyc.gov/Offices/FACE/
BecomingaParentLeader/default.htm](http://www.schools.nyc.gov/Offices/FACE/BecomingaParentLeader/default.htm)

اگر آپ کے کوئی سوالات
ہیں تو براہ مہربانی
شعبہ برائے خاندانی اور
اجتماعی شمولیت سے
FACE@schools.nyc.gov
پر یا 212.374.4118
پر رابطہ کریں۔

PA/PTA عمومی جائزہ



شعبہ برائے خاندانی اور اجتماعی شمولیت
والدین اور خاندان

T&I- 18496 (Urdu)

انتظام PA/PTA

PA/PTA ممبران کے لیے ذیلی قوانین کے ایک
مجموعے پر ووٹ ڈالنا اور اختیار کرنا لازمی ہے
جو انجمن کو منظم کرتے ہیں اور اسے بنیاد فراہم
کرتے ہیں۔ تمام PA/PTA ذیلی قوانین کو چانسلسر
کے ضابطے (A-660 (CRA-660) کے مطلوبات
کی پیروی کرنی لازمی ہے۔ PA/PTA ذیلی
قوانین کا خاکہ [http://schools.nyc.gov/Offices/
FACE/filesandresources.htm](http://schools.nyc.gov/Offices/FACE/filesandresources.htm) پر دستیاب ہے۔

چانسلسر کا ضابطہ A-660

چانسلسر کا ضابطہ (A-660 (CRA-660) تقاضہ
کرتا ہے کہ تمام اسکول انجمن والدین (PAs)
یا ایک والدین - اساتذہ انجمن (PTAs)
تشکیل دیں اور یہ PA/PTA کے حکومتی
ڈھانچے کو قائم کرتا ہے تاکہ والدین کے حقوق کے
واضح قیام کو یقینی بنایا جاسکے۔ PA/PTAs کے
لیے PA/PTA ذیلی قوانین بنانا اور ووٹ ڈالنا
لازمی ہے جو انجمن کو منظم کرتے اور ساخت
فراہم کرتے ہیں۔ PA/PTA ذیلی قوانین کی CR
A-660 کے مطلوبات سے مطابقت بھی لازمی
ہے۔

PA/PTA کے کرداروں اور ذمہ داریوں کے بارے
میں مزید جاننے کے لیے براہ مہربانی شعبہ برائے
خاندانی اور اجتماعی شمولیت (FACE) کے انجمن
والدین ویب پیج پر جائیں۔

PA/PTA کیا ہے؟

والدین کی انجمنیں (PAs) اور والدین - اساتذہ انجمنیں (PTAs) اسکول میں قائم تنظیمیں ہیں جو فی الوقت نیویارک شہر پبلک اسکولوں میں جانے والے بچوں کے تمام والدین کے لیے کھلی ہیں۔ PA/PTA والدین کے لیے اپنے بچوں کی تعلیم میں مصروف عمل ہونے کا بنیادی ذریعہ ہیں۔

میں اپنے اسکول کی PA/PTA میں کس طرح شامل ہوں؟

تمام والدین، سوتیلے والدین، قانونی تقرر کردہ سرپرست، رضاعی والدین اور والدینی رشتے والے افراد اپنے اسکول کی PA/PTA کے خود بخود رکن بن جاتے ہیں۔ PA/PTA میں شامل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

والدین کی اصطلاح میں طالب علم کے والدین یا سرپرست، اور طالب علم سے والدینی یا سرپرستی رشتے والا فرد شامل ہے۔

اس بارے میں مخصوص معلومات کے لیے کہ اپنے اسکول کی PA/PTA میں کس طرح سرگرم ہوں، اپنے اسکول کے پرنسپل یا والدین ربط دہندہ سے بات کریں۔

PA/PTA کا کیا کردار ہے؟

PA/PTA والدین کی اپنے بچوں کی تعلیم میں سرگرم ہونے، خیالات بانٹنے، اور اپنی اسکولی برادریوں کو مستحکم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ ہر PA/PTA اپنے ذیلی قوانین بناتی ہے، افسران منتخب کرتی ہے اور باقاعدہ اجلاس منعقد کرتی ہے۔

جبکہ PA/PTAs کے کردار مختلف ہوسکتے ہیں، انکی ذمہ داریوں میں شامل ہے:

- اسکول قیادتی ٹیموں اور اجتماعی تعلیمی کونسلوں میں خدمات انجام دینے کے لیے والدین ممبران کو منتخب کرنا
- دیگر والدین کو اسکولی زندگی میں سرگرم کرنے کے لیے روابط بڑھانا
- اسکولی سرگرمیوں کی اعانت کرنا جیسے، والدین - اساتذہ کانفرنس، اوپن ہاؤس اور نصابی راتیں (کریکلم نائٹس)
- اسکول میں تعلیمی، سماجی اور ثقافتی پروگراموں کے مفاد میں حصول سرمایہ کی سرگرمیوں کا انعقاد کرنا

PA یا PTA؟

انجمن والدین (PA) کے ممبران رکنیت میں اساتذہ اور دیگر اسکولی عملے کو شامل کرنے کے لیے انجمن کے ذیلی قوانین میں ترمیم کرنے کے لیے ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ PAs جو اسکولی عملے کو شامل کرنے کے لیے ووٹ دیتی ہیں وہ والدین - اساتذہ کی انجمنیں (PTAs) بن جاتی ہیں۔

- صرف والدین ممبران ہی انجمن کی ساخت کو PA سے PTA میں تبدیل کرنے کے لیے ووٹ ڈال سکتے ہیں۔
- ذیلی قوانین میں رکنیت کو اساتذہ کے علاوہ دیگر عملے تک توسیع دینے کے لیے ترمیم کی جاسکتی ہے (مثلاً، معاون پیشہ وران، اسکولی مددگار، اسکول سپیکریٹری اور کھانے کی خدمات کے کارکن)۔
- اسکول کا نگرانی عملہ اس اسکول کی PA/PTA کے ممبران نہیں ہوسکتے جس میں وہ ملازم ہیں۔
- اسکول کے ملازمین اسکول کی PA/PTA کے ایکزیکیٹو بورڈ یا نامزد کمیٹی کے ممبران کے بطور خدمات انجام نہیں دے سکتے۔